

# ادھار لے کر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم

مجیب: ابو محمد مفتی علی اصغر عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: Nor-12226

تاریخ اجراء: 07 ذوالقعدة المحرم 1443ھ / 07 جون 2022ء

## دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

### سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک اسلامی بہن کو مہینے کے آخر میں سیلری ملے گی، لیکن وہ ابھی ادھار لے کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہے، پھر جیسے ہی اس کی سیلری آئے گی تو وہ ادھار واپس کر دے گی۔ آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس صورت میں وہ اسلامی بہن ادھار لے کر زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے؟؟ رہنمائی فرمادیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

جی ہاں! پوچھی گئی صورت میں مذکورہ خاتون قرض کو وقت پر ادا کرنے پر قادر ہے تو ادھار لے کر زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔

چنانچہ علامہ شامی علیہ الرحمہ ردالمحتار میں لکھتے ہیں: ”ولو لم یکن عنده مال فأراد أن یستقرض لأداء الزکاة إن کان أكبر رأیه أنه یقدر علی قضائه فالأفضل الاستقراض وإلا فلأن خصومة صاحب الدین أشد۔“ یعنی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال نہیں ہو اور یہ چاہتا ہے کہ قرض لے کر ادا کرے۔ تو اگر غالب گمان قرض ادا ہو جانے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرض لے کر ادا کرے ورنہ نہیں اس لیے کہ قرض خواہ کا اپنے حق کے لیے جھگڑا کرنا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ (ردالمحتار مع الدر المختار، کتاب الزکاة، ج 03، ص 228، مطبوعہ کوئٹہ)

بہار شریعت میں ہے: ”اگر (زکاة) نہ دی تھی اور اب دینا چاہتا ہے، مگر مال نہیں جس سے ادا کرے اور یہ چاہتا ہے کہ قرض لے کر ادا کرے تو اگر غالب گمان قرض ادا ہو جانے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرض لے کر ادا کرے ورنہ نہیں کہ حق العبد حق اللہ سے سخت تر ہے۔“ (بہار شریعت، ج 01، ص 891-890، مکتبۃ المدینہ، کراچی، ملخصاً)

فتاویٰ اہلسنت کتاب الزکوٰۃ میں ہے: ”(صورتِ مسئلہ میں) شوہر یا بہن سے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔ البتہ قرض اسی صورت میں لیا جائے جب قرض ادا کرنا، ممکن ہو۔“ (فتاویٰ اہلسنت کتاب الزکوٰۃ، ص 179، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



*Dar-ul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)*



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)